

Quranic Duas Grief - Disease Fear - Evil

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Grief - غم - Disease - بیماری - Fear - خوف - Evil Plot - مکر

مجھے چار طرح کے غافلوں پر تعجب ہے جو چار مسائل کے حل سے غافل ہیں۔

1- مجھے تعجب ہے اس پر جو "غم" سے آزمایا گیا اور پھر بھی اس آیت سے غفلت کرتا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بیشک میں ظالموں میں ہو گیا (الانبیاء: 87)

کیا تم نہیں جانتے کہ اس دعا پر اللہ نے کیا جواب دیا؟

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا،

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ

تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔

21:87. AlAnbia And Dhun Nun (Jonah), when he went off in anger, then he thought that We had no power over him. Then he called out in the darkness, (saying) that: "There is no god except You. Be You glorified. Indeed, I have been of the wrongdoers."

وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ

عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

21:88. AlAnbia So We responded to him, and We saved him from the Grief. And thus do We save the believers.

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي

الْمُؤْمِنِينَ

2- مجھے تعجب ہے اس پر جو "بیماری" سے آزمایا گیا، کہ وہ کیسے اس دعا سے غفلت کرتا ہے:

أَيُّ مَسْنَى الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ

اے میرے رب! مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے (الانبیاء: 83)

کیا تم نہیں جانتے کہ اس دعا کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟

اللہ نے فرمایا ہے؛

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ

تو ہم نے اس کی سن لی اور جو تکلیف اسے تھی وہ دور کر دی۔

21:83. AlAnbia And Job, when he called to his Lord, (saying): "Indeed disease has afflicted me, and You are the Most Merciful of those who are merciful."

وَ أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيُّ مَسْنَى الضُّرِّ وَ

أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ

21:84. AlAnbia So We responded to him, and We removed what was on him, of the adversity. And We gave him (back) his household and the like thereof along with them, a mercy from Us, and a reminder for the worshippers.

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَ أَتَيْنَاهُ

أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرًا

لِّلْعَبِيدِينَ

3- مجھے تعجب ہے اس پر جو "خوف" سے آزمایا گیا، کہ وہ کیسے اس آیت سے غفلت کرتا ہے:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ

ہیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے (سورۃ آل عمران 3: 173)

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس پر اللہ نے کیا فرمایا؟

اللہ فرماتا ہے؛

فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ أَسْوَءِ

(نتیجہ یہ ہوا کہ) وہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی۔۔۔

3:173. AalImran Those (believers) to whom men (hypocrites) said: "Surely, the people (an army of pagans) have gathered against you, so fear them." But it (only) increased them in faith, and they said: "Allah is sufficient for us, and excellent (is He) for trusting."

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا

لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا

اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ

3:174.AalImran So they returned with favor from Allah and bounty, no harm touched them. And they followed the pleasure of Allah. And Allah is the owner of great bounty.

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّهُمْ
سُوءٌ ۗ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ
عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

3:175.AalImran That is only the Satan who frightens (you) of his supporters. So do not fear them, and fear Me, if you are (true) believers.

إِنَّمَا ذِكْمُ الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۗ فَلَا تَخَافُوهُمْ
وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

4- مجھے تعجب ہے اس پر جو "لوگوں کے "مکر" سے آزما یا گیا، کہ وہ کیسے اس دعا سے غفلت کرتا ہے:

وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے (غافر 44:40)

کیا تم نہیں جانتے کہ اس دعا پر اللہ نے کیا جواب دیا؟

اس پر اللہ نے فرمایا:

فَوَقَّهٖ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا

پس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھیں۔۔

40:44.Ghafir "So you will remember what I say to you. And I entrust my affair to Allah. Indeed, Allah is All Seer of (His) slaves."

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۗ وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

40:45.Ghafir So Allah saved him from the evils plotted by them, and the people of Pharaoh were encompassed by the worst punishment.

فَوَقَّهٖ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ
سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

Quran has response

اللہ ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے

17:82.Allsra And We send down of the Quran that which is a healing and a mercy for those who believe. And it does not increase but loss to the wrong doers.

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾